

Psa

Chapter 52

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	לְמַנְצַח	מְשָׁכִיל	לְדָוִד:	אֲבֹנָא	דְּוִיָּג	הָאֲדָמִי	וַיִּנְד	לְשָׁאוּל	וַיִּאָמֶר	לֹא	בָּא	דָּוִד
	ل-مُنْصَح	مَسْکِیل	ل-داؤد	جب-آیا	دوئیگ	ادومی	اور-بتایا	ل-ساؤل	اور-کہا	اُسے	آیا	داؤد
	H5329	H4905	H1732	H0935	H1673	H0130	H5046	H7586	H0559		H0935	H1732
	اَل-	بֵּית	אֶחֱימֶלֶךְ:	מָה-	תַּתְהַלֵּל	בְּרַעָה	הַנְּבֹר	אֵל	כָּל-	הַיּוֹם:		
	کی-طرف	گھر	اخیملک-کے	کیا	فخر-کرتا-ہے-تو	بُرانی-میں	زبردست	خدا-کی	سارا	دن		
	H0413		H0288	H4100		H1368		H0410	H3605	H3117		

1 | اخی داؤد بتایا، اُسے اور گیا پاس کے بادشاہ ساؤل ادومی ٹیگ دو جب بے متعلق سے وقت اُس گیت یہ کا حکمت لے۔ کے راہنما کے موسیقی زبور۔ کا داؤد بے-ربتی قائم بھر دن شفقت کی اللہ ہے؟ کرتا فخر کیوں پر بدی اپنی ٹو سورمے، اے ہے۔ گیا میں گھر کے امام مَلِک

2	הַיּוֹת	וַתַּחֲשֹׁב	לְשׁוֹנָךְ	כְּתֹעַר	מְלֻטָּשׁ	עֲשֵׂה	רְמוּחָ:
	تباہیاں	سوچتی-ہے	تیری-زبان	تیز-اُسترے-کی-طرح	تیز	کرنے-والی	فریب
	H1942	H2803	H3956	H8593	H3913		

2 | ہے۔باندھتی منصوبے کے تباہی ہوئی چلتی طرح کی اُسترے تیز زبان تیری باز، دھوکے اے

3	אֶהְבֶּתָּ	רַע	מְטֹוֹב	אֲשֶׁקֶר	מַדְבָּר	צִדֵּק	סֵלָה:
	محبت-کی-تو-نے	بُرانی	بھلائی-سے	جھوٹ	بولنے-سے	سچائی	سیلاہ
	H0157		H8267	H1696	H6664	H5542	

3 | (سیلاہ) ہے۔ پسند زیادہ جھوٹ نسبت کی بولنے سچ ہے، پیاری زیادہ بُرائی نسبت کی بھلائی تجھے

4	אֶהְבֶּתָּ	כָּל-	דְּבָרֶי-	כָּלֵע	לְשׁוֹן	מְרֹמָה:
	محبت-کی-تو-نے	سب	باتیں	نگلے-والی	زبان	فریب-کی
	H0157	H3605	H1697	H1105	H3956	H4820

4 | ہے۔کرتی پیار سے بات کن تباہ بر ٹو زبان، دہ فریب اے

5	נִם-	אֵל	יְהוָה	לְיָצֵחַ	יַחְזִיק	מֵאֲהֵל	וְשָׂרָף
	بھی	خدا	گرا-دے-گا-تجھے	بمیشہ-کے-لیے	اکھاڑ-دے-گا-تجھے	اور-اکھیڑ-دے-گا-تجھے	اور-تیری-جڑ
	H1571	H0410	H5422	H5331	H2846	H0168	H8327
	מֵאָרֶץ	חַיִּים	סֵלָה:				
	زمین-سے	زندوں-کی	سیلاہ				
	H0776		H5542				

5 | دے کر خارج سے ملک کے زندوں کر اکھاڑ سے جڑ تجھے گا، دے نکال سے خیمے تیرے کر مار مار تجھے وہ گا۔ ملانے میں خاک لئے کے ہمیشہ تجھے اللہ لیکن (سیلاہ) گا۔

6	וַיִּרְאוּ	צְדִיקִים	וַיִּירְאוּ	וְעָלְיוּ	יִשְׁחָקוּ:
	اور-دیکھیں-گے	راستباز	اور-ڈریں-گے	اور-اُس-پر	ہنسنیں-گے
	H7200	H6662	H3372		H7832

6 | گے، کہیں کر ہنس پر اُس وہ گے۔ کھائیں خوف کر دیکھ یہ باز راست

7	הנהגה	הנהגה	לא	ישים	אלהים	מקווה	ויבטח	כרב	עשרו	אעז
	دیکھو	آدمی	نہیں	بنایا	خدا-کو	اپنی-پناہ	اور-بھروسہ-کیا	کثرت-میں	اپنی-دولت-کی	مضبوط-تھا
	H2009	H1397	H3808	H0430	H4581	H0982	H7230	H6239	H5810	

כהנתו:

اپنی-تباہی-میں
[H1942](#)

تھا۔ گیا ہو ور طاقت سے منصوبوں کن تباہ اپنے جو کیا، اعتماد پر دولت بڑی اپنی بلکہ لی نہ پناہ میں اللہ نے جس ہے آدمی وہ یہ لو،

8	ואני	כזית	רענן	בבית	אלהים	בטחתי	בחסד	אלהים	עולם	ועד:
	اور-میں	زیتون-کی-طرح	ہرا	گھر-میں	خدا-کے	بھروسہ-کیا-میں-نے	شفقت-پر	خدا-کی	ہمیشہ	اور-ابد
	H0589	H2132		H0430	H0982			H0430	H5769	H5703

گا۔ رکھوں بھروسا پر شفقت کی اللہ لئے کے ہمیشہ میں ہوں۔ مانند کی درخت پھولتے پھلتے کے زیتون میں گھر کے اللہ میں لیکن

9	אודך	לעולם	כי	עשית	ואקוה	שמך	כי	טוב	נגד
	شکر-کروں-گا-تیرا	ہمیشہ	کیونکہ	کیا-تو-نے	اور-انتظار-کروں-گا	تیرے-نام-کا	کیونکہ	اچھا	سامنے
	H3034	H5769				H8034			H5048

חסידך:

تیرے-مقدسوں-کے
[H2623](#)

ہے۔ بھلا وہ کیونکہ گا، ربوں میں انتظار کے نام تیرے ہی سامنے کے داروں ایمان تیرے میں ہے۔ کیا نے ٹو جو گا کروں ستائش تیری لئے کے اُس تک ابد میں